



سوال

(540) گیتوں کے ساتھ طبلہ اور سارنگی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہم بعض محفلوں میں گیتوں کے ساتھ طبلہ اور سارنگی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے ہمارے اس فعل کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام بہت برا ہے یعنی گیتوں کا طبلہ اور سارنگی کے ساتھ گانا، یاد رہے ہم فحش گیت نہیں گاتے فتویٰ عطا فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہمیں کوئی ایک بھی دلیل ایسی معلوم نہیں جس سے طبلہ اور سارنگی کا استعمال جائز قرار پاتا ہو، بلکہ صحیح حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی دیگر آلات موسیقی کی طرح حرام ہیں، مثلاً نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لیكون من امتی اقوام یستحلون الخمر، والحریر، الخمر، والمعازف۔: [صحیح بخاری، الاشریہ، باب ماجاء فیمن یستحل الخمر ویسمیہ بغیر اسمہ ح: ۵۵۹۰]

”میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، اور آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے۔“

حدیث میں آنے والی معازف کا لفظ تمام گانوں اور تمام آلات موسیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

[فتاویٰ اسلامیہ](#)

ج 4 ص 412



محدث فتویٰ